

ستمبر 2018

عزیزی والدین / سرپرست،

ہمیں بڑی خوشی ہے آپ اور آپ کا بچہ اس تعلیمی سال میں ہمارے K-3 فار آل پروگرامز میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ کے بچے کے استاد اور منتظم آپ کے بچے کو پُرلطف اور باہمی عمل کے اسباق کے ذریعے مدد دیں گے تاکہ تاحیات سیکھنے کے عمل کے لیے ضروری بنیادیں فراہم کر سکیں۔ ان کوششوں میں آپ کے بچے کی وسیع سماجی اور تعلیمی صلاحیتوں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی سال زبان کی نشوونما پر نظر رکھنا شامل ہے۔

سال کے شروع میں، معائنہ پروگراموں (screening programs) کے ذریعے بچوں کی ممکنہ نشوونما اور تدریسی ضروریات پرکھی جاتی ہیں۔ آپ کے بچے کی یہ معائنہ اری انوینٹری اسکریننگ - ریوائزڈ (ESI-R®)، یا ایک مساوی نشوونما معائنہ کے پروگرام کے ذریعے اندراج کے 45 دنوں کے اندر کی جائے گی۔ براہ کرم توجہ کریں کہ اس معائنہ کے وقتی خطوط (timelines) کا انحصار آپ کے بچے کی عمر پر ہے۔

اس معائنہ سے آپ کے بچے کے استاد کو آپ کے بچے کی نشوونما اور تدریسی ضروریات سمجھنے میں مدد ملی گی۔ اس معائنہ سے پری کے فار آل یا کنڈرگارٹن کی لیے تیاری کا تعین نہیں ہوگا۔ یہ کسی پروگرام میں داخلے کے لیے آئی کیو (IQ) ٹیسٹ نہیں ہے۔ آپ کے بچے کا استاد آپ کو اس معائنہ کے نتائج میں شامل رکھے گا۔

ہم آپ سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ والدین سوالنامہ، جو آپ کے بچے کا استاد دے گا، اسے مکمل کر کے واپس کریں۔

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، براہ کرم اپنے بچے کے استاد سے یا اس پر earlychildhood@schools.nyc.gov رابطہ کریں

ابتدائی طفلی ذرائع کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اس ویب سائٹ پر جائیں - <https://www.schools.nyc.gov/school-life/learning/grade-by-grade/early-childhood-learning>

مخلص،

Josh Wallack

ڈپٹی چانسلر برائے ابتدائی طفلی تعلیم و طالب علم اندراج